

## سوال

اس گروہ کے متعلق جو کہ اپنے آپ کو ( حبشی ) کہتا ہے اسلام کی رائے کیا ہے ؟ اور ان کے بارہ میں ہمارہ کیا موقف ہونا چاہئے ؟ اور اس گروہ کی عقدی غلطیاں کیا ہیں ؟

## پسندیدہ جواب

الحمد لله.

وحده الصلاة والسلام على من لا نبى بعده ،وعلى آله وصحبه -

اما بعد :

مستقل فتوی اور علمی ریسرچ کمیٹی کے پاس (حبشی جماعت ) کے متعلق اور اس جماعت کی طرف منسوب شخص جس کا نام عبداللہ الحبشی جو کہ لبنان میں رہتا ہے کے متعلق بہت سے سوالات و استفسارات آئے ہیں ، اور اس جماعت کی بہت ساری شاخیں بعض یورپی ممالک اور امریکا اور اسٹریلیا میں بھی پائی جاتی ہیں -

تو کمیٹی نے اس جماعت کا وہ لٹریچر جس میں اس جماعت کے اعتقادات و افکار اور دعوت بیان کی گئی ہے طلب کیا ، اس لٹریچر پر غور و خوص کرنے کے بعد کمیٹی نے عام مسلمانوں کے لئے مندرجہ ذیل وضاحت کی ہے :

اول :

صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

( سب سے اچھے لوگ میرے دور کے اور پھر اسے کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے ہیں ) دوسرے الفاظ بھی وارد ہیں -

اور فرمان نبوی ہے : ( میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں ، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے ، اور تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا ، تو تم میری اور خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت پر عمل کرنا ، اس پر سختی سے کاربند رہنا ، اور نئے نئے بدعات والے کے بچتے رہنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے ) -

مسند احمد ، ابو داؤد ، اور ترمذی نے اسے روایت کیا اور اسے حسن صحیح کہا ہے ۔

اور قرون ثلاثہ کے امتیاز کی سب سے اہم خصلت اور سب لوگوں پر خیر اور بہلائی رہی اس کی خصلت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سب معاملات میں کتاب و سنت کو حاکم بنایا اور اس پر عمل کیا ، اور کتاب و سنت کو ہی ہر ایک کے قول پر مقدم رکھا چاہے اس قول کا قائل کوئی بھی ہو ، اور سب امور میں فہم و فراست سے کام لیا ۔

اور کتاب و سنت کی نصوص کو قواعد شرعیہ اور عربی لغت کے مطابق سمجھا ، اور شریعت کو اس کی جزئیات و کلیات اور عموم اور خبر واحد کو مکمل طور پر اخذ کیا ، اور متشابہ نصوص کو محکم نصوص پر پیش کیا ، تو اس لئے وہ شریعت اسلامیہ پر مستقیم رہے اور اس پر عمل کیا ، اور اس پر پوری سختی سے کا ر بند رہے ، اور اس میں نہ تو کسی قسم کی کمی اور نہ ہی زیادتی کی ، اور ان سے یہ چیز کیسے سرزد ہو سکتی تھی کہ وہ دین میں کمی و زیادتی کر لیں جبکہ انہوں نے اس نص کو پکڑا ہوا تھا اور اس نص پر عمل کر رہے تھے جو کہ ہر خطا اور زلل سے معصوم ہے ۔

دوم :

پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جن میں بدعات و خرافات نے کثرت سے رواج پا لیا ، اور ہر ایک رائے رکھنے والا اپنی رائے پر عمل کرنے لگا اور نصوص شرعیہ کو ترک کیا جانے اور انہیں اپنی اہواء اور خواہشات کے مطابق ڈھالا جانے اور اس تاویل کی جانے لگی ، تو ان لوگوں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی اور مومنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی راہ پر چلنا شروع کر دیا ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ہے :

اور جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے ، تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہو اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور یہ پہچنے والی بہت ہی بری جگہ ہے

اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر فضل و کرم ہے کہ ہر دور میں ایسے علماء پیدا فرما دیتا ہے جو کہ علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور ان بدعات جو کہ دین کے جمال و خوبصورتی میں بگاڑ پیدا کر رہی اور اس کی صفائی میں کچھ امیزش کر رہی اور سنت کو مٹا رہی ہوں تو ان کا قلع قمع کرتے ہیں ۔

یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی سچائی ہے جو کہ اس نے اپنے دین اور شریعت کی حفاظت کا کیا ہوا ہے ، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے :

ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : ( ہر وقت میری امت میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرتے رہیں گے ، جو بھی انہیں ذلیل کرنے یا ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے گا اور وہ لوگوں پر غالب ہوں گے ) یہ حدیث احادیث کی سب کتب صحاح اور مسانید اور سنن میں موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی الفاظ وارد ہیں -

سوم :

چودویں صدی کے آخری ایام میں عبداللہ حبشی کی قیادت میں ایک جماعت ظاہر ہوئی جس نے حبشہ سے شام میں گمراہی پھیلانی شروع کی اور لبنان کو اپنا مستقر بنانے کے بعد لوگوں کو اپنے طریقے کی دعوت دینی شروع کی اور اپنے پیروکاروں کو کثیر بنانے اور اپنے افکار کو پھیلانے لگا جو کہ جہمی قبرپرستوں اور صوفیوں اور معتزلہ کے عقائد کا مجموعہ ہے یہ شخص ان عقائد پر تعصب رکھتا اور اس پر مناظرے کرتا اور اس کی دعوت دینے والا لٹریچر طبع کرتا اور اسے پھیلاتا ہے -

ان کے لٹریچر کو بغور دیکھنے اور مطالعہ کرنے والوں کو واضح ہوتا ہے کہ اپنے اعتقادات کے اعتبار سے مسلمانوں کی جماعت (اہل سنت) سے خارج ہیں ، ذیل میں ہم ان کے کچھ اعتقادات بطور مثال ذکر کرتے ہیں نہ کہ سب :

1- یہ گروہ ایمان کے مسئلہ میں مرجئہ کے مذموم مذہب پر ہے -

اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ اور ان کے بعد آج تک جو بھی ان کے طریقے اور راہ پر چلنے والے ہیں وہ عقیدہ یہ ہے کہ :

ایمان زبانی اقوال اور اعتقاد قلب اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے ، تو یہ ضروری ہے کہ تصدیق کے ساتھ انقیاد و اطاعت اور شریعت مطہرہ کے لئے خضوع ہو ، اور اگر یہ نہیں تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ صحیح نہیں -

اس عقیدہ کی تقریر کو نقل کرنے میں سلف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اقوال کثرت سے وارد ہیں ، انہی اقوال میں سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے : صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد والوں کو جنہیں ہم نے اپنے دور میں پایا ہے ان کا اس بات پر اجماع ہے ، وہ یہ کہتے تھے کہ : ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے ، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے بغیر کا فی نہیں - (یعنی تینوں کا ہونا ضروری ہے ) -

2 - اس جماعت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مردوں سے استغاثہ اور پناہ مانگنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارنا جائز قرار دیتے ہیں ، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص اور مسلمانوں کے اجماع سے شرک اکبر ہے ، اور یہی شرک ان پہلے مشرکوں اور کفار قریش وغیرہ کا دین ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے متعلق فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے :

اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو اسے نقصان دے سکیں اور نہ ہی اسے کوئی نفع دے سکیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں

اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

پس آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں ، اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے ، خبردار ! اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں ، یہ لوگ جس بارہ میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا ، اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے ، تم اس کو گڑ گڑا اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو کہ اگر تو ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگ جاتے ہو

اور فرمان باری تعالیٰ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

اور بیشک مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اسی کی سلطنت ہے ، اس کے علاوہ جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چلکے کے بھی مالک نہیں ، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر ( بالفرض ) سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کرجائیں گے ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی خبردار خبریں نہ دے گا

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ( دعاء عبادت ہے ) اس حدیث کو اصحاب سنن نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے -

اس موضوع کے متعلق آیات اور احادیث بہت ہیں جو کہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلے دور کے مشرکوں کو یہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ رازق اور خالق اور وہی نفع اور نقصان دینے والا ہے ، لیکن انہوں نے اپنے الہوں کی عبادت اس لئے کی تاکہ وہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کریں ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فعل پر کافر قرار دیا ، اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ ان پر حکم صادر کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے لڑائی اور جہاد کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ اللہ وحدہ کی عبادت ہونے لگے ۔

جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ہے :

اور ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے

اور علمائے کرام نے اس موضوع میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں ، جن میں اس اسلام کی حقیقت بیان کی گئی ہے جس کے ساتھ رسول مبعوث کئے گئے اور کتابیں نازل کی گئیں ، اور ان میں اہل جاہلیت کے دین اور ان کے عقائد اور اعمال کو بیان کیا گیا ہے جو کہ شریعت الہیہ کے مخالف ہیں ۔

اس موضوع میں سب سے اچھی اور بہتر کتاب شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی تالیف ہے کہ ایک مختصر اور جامع کتاب ہے ( قاعدہ جلیۃ فی التوسل والوسیلة ) ۔

3 - اس گروہ اور جماعت کے لوگ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کلام حقیقی نہیں مانتے ۔

نصوص قرآنیہ اور سنت نبویہ اور مسلمانوں کے اجماع سے یہ بات ثابت اور معلوم ہے کہ ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح اس کے شایان شان اور لائق ہے ، اور قرآن کریم حروف معانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی ہے ، جیسا کہ فرمان ربانی کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

اور اگر آپ سے کوئی مشرک پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) سے صاف طور پر کلام کیا ۔

اور اللہ جل جلالہ کے فرمان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر اور عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالتے ہیں

اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح ہے :

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو بدل دیں ، آپ کہہ دیجئے ! کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے ۔

اس معنی میں آیات تو بہت سی جو سب کے علم میں ہیں ، اور اس عقیدے کا سلف صالحین سے تواتر کے ساتھ ثبوت ملتا ہے ، اور اسی طرح نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے ، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اس کا احسان ہے ۔

4 – اس گروہ کے ہاں یہ واجب ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کی جتنی بھی نصوص ہیں ان کی تاویل کی جائے ۔

اور یہ عقیدہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین عظام کے دور سے لے کر آج تک ان کے طریقے پر چلنے والوں کا ہے ، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کی جو نصوص وارد ہیں ان میں غیر کسی تاویل اور تحریف اور بغیر تعطیل اور تکییف اور تمثیل اور تشبیہ کے ایمان لانا واجب ہے ۔

بلکہ ان وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے ، تو (اہل سنت و الجماعت) اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی نہیں کرتے جو وصف اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیان کیا ہے ، اور نہ ہی کلمات کو اس کی جگہ سے دوسرے جگہ پھیرتے ہیں ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور آیات میں الحاد سے کام لیتے ہیں ، اور نہ اسماء و صفات کی کیفیت اور اور نہ ہی اس کی صفات کی مثال مخلوق کی صفات سے بیان کرتے ہیں ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی کوئی شریک ہے ۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ :

میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے متعلق جو کچھ وارد ہے اس طرح ایمان لایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ وہ لائے ہیں اس پر اس طرح ایمان لایا جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ۔

اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ :

ہم ان پر ایمان لاتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ پر نہیں لوٹاتے ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ

کا اس سے زیادہ وصف بیان کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خود وصف بیان کیا ہے -

5- اور ان کے باطل عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ "مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار اور نفی -

اس کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہی ہے جس پر قرآن کریم کی قطعی آیات اور احادیث نبویہ اور فطرت سلیمہ اور صریح عقول دلالت کرتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بلند اور اپنے عرش پر مستوی ہے اس پر بندوں کے امور میں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے -

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ہے :

پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سات جگہ پر فرمایا ہے -

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

تمام تر ستہرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے -

اور جل و علا کے فرمان کا ترجمہ ہے :

اور وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے

اور فرمان ربانی ہے : اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو

اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے :

اور یقیناً آسمان وزمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے ہیں ، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپکپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں -

اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے ، ان میں سے معراج کا قصہ جو کہ تواتر سے ثابت ہے - جس میں ہے کہ :

( نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آسمان کر کے ساتوں آسمانوں سے تجاوز کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قریب کیا یا انہیں آواز دی اور پچاس نمازیں فرض کیں تو نبی صلی اللہ علیہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے تاکہ نمازوں میں تخفیف ہو سکے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے اور موسیٰ علیہ السلام انہیں کرانے کے

لئے کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس اوپر جاتے ) -

اور ان احادیث میں سے حدیث ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

( اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو کتات میں لکھا جو کہ اس کے پاس عرش کے پر ہے : بیشک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے ) بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے -

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

( کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں اس کا امین ہوں آسمانوں میں ہے ) صحیح بخاری و مسلم -

اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

( اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کا علم رکھتا ہے ) صحیح ابن خزیمہ اور سنن ابو داؤد -

اور صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتب میں اس لونڈی کا قصہ موجود ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

( اللہ تعالیٰ کہاں ہے ؟ تو وہ کہنے لگی : آسمان میں ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں ؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے ) -

تو مسلمان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ تبع تابعین آج تک ان کے راستے پر چلنے والے اس صاف ستھرے عقیدہ پر چلتے رہے ، اس پر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے -

تو اس مسئلہ کی عظمت اور اس کے کثرت دلائل کی بنا پر جو کہ ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں اہل علم نے صرف اس مسئلہ میں علیحدہ تصانیف کی ہیں ، مثلاً حافظ ابو عبد اللہ الذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ( العلو للعلی الغفار ) اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ( اجتماع الجیوش الاسلامیۃ ) -

6 - یہ گروہ صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ صحابہ کرام کے شایان شان اور لائق نہیں -

انہیں باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صراحتاً فاسق قرار دیتے ہیں ، اور اس

عقیدہ میں وہ رافضیوں کے مشابہ ہیں - اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل خوار کرے - اور مسلمانوں پر تو واجب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے آپس میں جو کچھ اختلاف ہو اس میں بات کرنے سے باز رہیں ، اور اپنی زبانوں کو اس میں استعمال نہ کریں اور انکی فضیلت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا عقیدہ رکھیں -

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا :

میرے صحابہ کو برا نہ کہو ، کیونکہ اگر تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کردے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے ایک مد بلکہ نصف کا ثواب بھی حاصل نہیں کرسکتا - صحیح بخاری و مسلم -

اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے :

اور (ان کے لئے) جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ، اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال اے ہمارے رب بیشک توشفقت و مہربانی کرنے والا ہے

اور یہ وہ اعتقاد سلیم اور صحیح عقیدہ ہے جو کہ صحابہ کرام کے متعلق ایک مسلمان کا ہونا چاہئے اور یہی وہ عقیدہ ہے جو کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اہل سنت میں پایا جاتا ہے ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعہ کے عقیدہ کے بیان میں کہا ہے کہ ( فی بیان عقیدة اهل سنة والجماعة ) :

( ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی ان میں کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور جو ان سے بغض رکھتا اور خیرکے بغیرانہیں یاد کرتا ہے ہم ان سے بغض کرتے اور ہم صحابہ کرام کو خیروبھلائی کے بغیر یاد نہیں کرتے ، ان سے محبت کرنا دین اور ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض کفر ونفاق اور سرکشی و زیادتی ہے ) -

چہارم :

اور وہ چیزیں جو کہ اس جماعت کی پکڑ میں آتا ہے ان کے فتووں میں ظاہری شذوذ پایا جاتا ، اور وہ قرآن و سنت کی نصوص سے متصادم ہیں -

ان میں سے کچھ بطور مثال ذکر کیئے جاتے ہیں :

انہوں نے کفارکامال چھننے لے لئے ان کفار کے ساتھ جو مباح قرار دیا ہے ، اور انکی کھیتی اور جانوروں کی چوری اس شرط پرجائز قرار دی ہے کہ اگر اس میں فتنہ کا ڈر نہ ہو تو کفار کی چوری کی جاسکتی ہے ، اور اسی طرح کفار کے ساتھ سود کا لین دین کرنا جائز قرار دیا ہے ، اور محتاج کے ساتھ ان پتوں کے ساتھ معاملہ کرنا جو کہ حرام ہیں

جائز قرار دیا ہے -

اور ان صریح مخالفت میں سے یہ بھی ہے کہ : آئینہ اور سکرین میں اجنبی عورت کو دیکھا جاسکتا ہے اگر چہ بطور شہوت ہی کیوں نہ ہو ، اور اجنبی عورت کو ہمیشہ اور بار بار دیکھنا حرام نہیں ، اور عورت کے بدن میں سے وہ اشیاء جو کہ مرد کے لئے دیکھنا حلال نہیں اسے دیکھنا حرام نہیں ، اور اسی طرح مردوں اور عورتوں کے درمیان احتلاط اور میل جول مباح ہے ، اس کے علاوہ وہ فتویٰ جو کہ شاذ اور شریعت اسلامیہ کے خلاف اور اس سے متصادم ہیں ، اور جو امور جائز اور مباح ہیں انہیں کبیرہ گناہ شمار کرتے ہیں ، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے اسباب سے عافیت طلب کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عفات اور اس کی ناراضگی کا باعث ہوں -

پنجم :

ان کا اسلوب ہے کہ وہ اہل سنت کے راسخ علماء سے نفرت دلاتے - کہ ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں اور کی نقول پر اعتماد نہ کیا جائے - اور ان پر سب و شتم کرتے اور ان کی عزت مرتبہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، بلکہ ان علماء کو کافر قرار دیتے ہیں ، ان علماء میں سے علماء کے سرخیل امام مجدد شیخ الاسلام ابو العباس عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ، حتیٰ کہ عبداللہ الحبشی نے امام ابن تیمیہ کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ان کی طرف گمراہی اور ایسی باتوں کی نسبت کی ہے جو کہ انہوں نے کہی ہی نہیں ، اور ان پر افتراء اور جھوٹ باندھا ہے ، اس کا حساب اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جھگڑہ کرنے والے جمع ہوں گے -

اور اسی طرح وہ امام مجدد محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی اس دعوت پر بھی طعن کرتے ہیں جو کہ جزیرہ عربیہ کے قلب میں پھیلی اور جس میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کا کہا گیا اور قرآن و سنت کی نصوص کی تعظیم کی طرف بلایا گیا ، اور بدعات کو ختم کر کے سنت کا احیاء کیا گیا ، تو اللہ تعالیٰ نے اس مجدد سے معالم دین کو زندہ فرمایا ، اور بدعات اور برائیوں میں سے جسے چاہا اسے مٹا کر نابود کر دیا ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دعوت کے آثار عالم اسلامی کے کونے کونے پر پھیل گئے ، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہی اور ضلال سے نجات دلائی -

تو اس گمراہ جماعت ( حبشیوں کی جماعت ) نے اپنے منہ کے تیروں اور توپوں کا منہ اس دعوت حقہ اور جو اس دعوت کو دینے والے ہیں ان کی طرف کر دیا اور اس کے ذمہ جھوٹ اور شبہات لگانے شروع کر دئے ، اور جو صریح کتاب و سنت کی دعوت تھی اس کا انکار کرنا شروع کر دیا ، ان کا یہ سارا فعل صرف اس لئے تھا کہ لوگوں کو حق سے نفرت دلائی جائے اور سیدھے راہ سے لوگوں کو روکا جائے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے -

اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اس جماعت کا ان مبارک اور علم و فضل والے علماء سے بغض رکھنا اس

بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کے دل میں ہر اس شخص کے خلاف حقد و بغض اور کینہ پایا جاتا ہے جو بھی دعوت توحید کا پرچار کرے اور اس کی طرف بلائے اور اس اعتقاد کی دعوت دے جس پر قرونِ ثلاثہ کے لوگ تھے ، اور اس جماعت کے لوگ اسلام کی حقیقت اور اس کے جوہر سے دور اور اس سے ہٹے ہوئے ہیں ۔

ششم :

جو کچھ اوپر بیان ہو چکا اور اس کے علاوہ جو بیان نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے کمیٹی نے مندرجہ ذیل فیصلہ کیا ہے :

1 - یہ جماعت گمراہ اور مسلمانوں کی جماعت ( اہل سنت ) سے خارج ہے ، اور اس جماعت کے ارکان پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ اس حق پر واپس آجائیں جس پر صحابہ کرام اور تابعین عظام دین کے سب معاملات میں اور عملی اور اعتقادی طور پر تھے ، اسی میں ان کی بھلائی اور بقا ہے ۔

2 - اس جماعت کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز نہیں ، اس لئے کہ وہ اسے دین سمجھتے ہیں جو کہ شاذ بلکہ نصوص قرآنیہ اور احادیث کے مخالف ہیں ، اور وہ ان اقوال پر عمل کرتے ہیں جو کہ فاسد اور نصوص شرعیہ سے دور ہیں ، اور یہ سب کچھ اس پر دلالت ہے کہ عام مسلمانوں کو ان کے فتاویٰ پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ۔

3- احادیث نبویہ کے متعلق ان کی کلام غیر معتبر ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا چاہے وہ اسناد یا معانی کے بارہ میں ہو ۔

4 - ہر جگہ پر مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اس گمراہ جماعت سے بچ کر رہے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین کرے ، اور انہیں یہ چاہئے کہ وہ کسی بھی طرح اور کسی بھی نام سے اس جماعت میں داخل ہونے سے بچیں ، اور اس جماعت کے کارکنوں کو ثواب کی نیت رکھتے ہوئے انہیں نصیحت کریں جو کہ اس میں گھسے ہوئے ہیں ، اور ان کے لئے اس جماعت کے گمراہ عقائد اور افکار کو ان کے سامنے بیان کیا جائے ۔

تو کمیٹی جب یہ فیصلہ کیا اور اسے لوگوں کے لئے اسے بیان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا کے رکھے اور مسلمانوں میں سے گمراہ لوگوں کو سیدھے راہ کی ہدایت دے اور ان کے حالات کی اصلاح فرمائے ، اور سازشیوں کی سازشوں کو ان کے لئے وبال جان بنائے ، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور دعا کو شرف قبولیت بخشنے والا ہے ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والوں پر رحمتیں برسائے ، آمین ۔